

برائے فوری اجراء

سٹی آف برامپٹن نے سال 2019 میں مضبوط کریڈٹ ریٹنگ برقرار رکھی ہے

سٹی کی مضبوط مالیات اور سرمایہ کاری کی غیر معمولی اہلیت نے سٹی کو ٹریپل 'اے' کریڈٹ ریٹنگ برقرار رکھنے اور اپنی مالی حالت کو مستحکم بنانے میں مدد دی ہے۔

برامپٹن، آن (10 اکتوبر 2019) – S&P گلوبل نے مستحکم مالی حالت کی بناء پر سٹی آف برامپٹن کو 2019 کے لیے حاصل ہونے والی ٹریپل 'A' ریٹنگ کی توثیق کر دی ہے۔ کسی بھی میونسپلٹی کو حاصل ہونے والی یہ اعلیٰ ترین ریٹنگ ہو سکتی ہے۔ S&P کے مطابق یہ ریٹنگ سٹی کے ٹھوس مالیاتی انتظامات کی بھرپور عکاسی کرتی ہے۔

سرخیاں

S&P گلوبل کے مطابق، شہر کی مضبوط کریڈٹ ریٹنگ میں کئی عناصر اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ رپورٹ کی سرخیوں میں شامل ہیں:

"اپنے ہم پلہ شہروں کی نسبت قرض فراہم کرنے کی زیادہ وسیع خدمات کے باوجود برامپٹن سرمایہ کاری کی اپنی غیر معمولی اہلیت بھی برقرار رکھے ہوئے ہے۔"

"بڑھوتری کی اپنی ضروریات کو پورا کرنے اور اپنے مالی امور کو منظم کرنے کے لیے، سٹی دانشمندانہ طور پر ضروری اقدامات اٹھاتا رہے گا۔"

"سٹی اہم معلومات کے انکشاف تک شفاف اور آسان رسائی فراہم کرتا ہے اور آپریٹنگ و کیپیٹل بجٹ تفصیلی طور پر تیار کیے جاتے ہیں۔"

لنک

[سٹی آف برامپٹن کی 'AAA' ریٹنگ کی توثیق ہو گئی ہے اور مالی صورتحال مستحکم رہی](#)

اقتباسات

محفوظ مالیاتی انتظام کاری اور بہترین طرز حکمرانی کے عزم کے حامل ایک اچھی طرح چلایا جانے والے شہر کے طور پر، برامپٹن نے مزید ایک سال کے لیے اپنی مضبوط کریڈٹ ریٹنگ کا اعزاز برقرار رکھا ہے۔ سٹی کی لچکدار مالیاتی حیثیت بھی برامپٹن کو سرمایہ کاری کے لیے ایک پر کشش شہر بنانے والے عناصر میں سے ایک ہے۔ غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری کو سٹی میں لانے کے حوالے سے یہ ریٹنگ ہماری ان تھک کوششوں پر مہر ثبت کرتی ہے۔"

- میئر پیٹرک براؤن

"برامپٹن کی ٹھوس مالیاتی حیثیت ہماری کمیونٹی اور سرمایہ کاروں کے لیے اعتماد کا ووٹ ہے۔ کیپیٹل کے تیز ترین ترقی کرنے والے شہروں میں سے ایک ہونے اور جدت کی راہداری پر بیٹھنے والے ایک شہر کے طور پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی متنوع کمیونٹی بشمول رہائشیوں اور کاروباری اداروں کی تمام ضروریات پوری کریں۔ ہم اپنے کاموں کے لیے معاشی طور پر ذمہ دار ہونے کے لیے پرعزم ہیں۔"

- ریجنل کونسلر پال ویسیٹے، وائس چیئر، بجٹ کمیٹی

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو ہمارے ساتھ۔ ٹوئٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

Monika.Duggal@brampton.ca | 905-874-3426